

www.e-qira.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

زکوۃ کس طرح ادا کریں؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيّات اعمالنا، من يهده اللّٰه فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ، ونشهد ان لا الٰه الا الله وحده لا شريک له ونشهد انّ سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللّٰه فبشرهم بعذاب اليم، يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوىٰ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ (التوبہ ۳۴-۳۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلک من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

تمہید

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! آج کا یہ اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن یعنی

زکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے سے چند روز پہلے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوۃ نکالتے ہیں، لہٰذا اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ زکوۃ کی اہمیت اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعہ ہمارے علم میں آجائیں تا کہ اس کے مطابق زکوۃ کو نکالنے کا اہتمام کریں۔

زکوۃ نہ نکالنے پر وعید

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوۃ نہیں نکالتے، ان کے لئے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے، چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں کرتے، تو (اے نبی ﷺ) آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا:

﴿هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾

ترجمہ: یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو

جوتم اپنے لئے جمع کر رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔

یہ ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا نہیں لاتے، صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی وعیدیں بیان فرمائی ہیں چنانچہ سورۂ ہمزہ میں فرمایا:

﴿**ویل لکل همزة لمزة، الذی جمع مالا وعدده، یحسب انّ ماله اخلده، کلا لینبذن فی الحطمه، وما ادراک ما الحطمه، نار الله الموقدة، التی تطلع علی الافئدة**﴾ (سورہ ھمزۃ ۱ تا ۷)

یعنی اس شخص کے لئے دردناک عذاب ہے جو عیب نکالنے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن گن کر رکھ رہا ہے (ہر روز گنتا ہے کہ آج میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی گنتی کر کے خوش ہو رہا ہے) اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطاء کر دے گا، ہرگز نہیں۔ (یاد رکھو! یہ مال جس کو وہ گن گن کر رکھ رہا ہے اور اس پر جو واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے) اس کو روندنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، تمہیں کیا پتہ کہ "حطمه" کیا چیز ہوتی ہے؟ (یہ حطمہ جس میں اس کو ڈالا جائے گا) یہ ایسی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے (یہ کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں ہے، جو پانی سے بجھ جائے یا مٹی سے بجھ جائے یا جس کو فائر بریگیڈ بجھا دے بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے) جو انسان کے قلب و جگر تک جھانکتی ہوگی (یعنی انسان کے قلب جگر تک پہنچ جائے گی)۔

اتنی شدید وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے آمین۔

یہ مال کہاں سے آرہا ہے

زکوۃ ادا نہ کرنے پر ایسی شدید وعید کیوں بیان فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو چاہے تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرتے ہو ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں سے آرہا ہے؟ جبکہ تمھارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور بازو سے وہ مال جمع کرسکتے؟ یہ تو اللہ تعالی کا بنایا ہو حکیمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ تمھیں رزق پہنچا رہا ہے۔

گاہک کون بھیج رہا ہے؟

تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے مال جمع کرلیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا اور اس مال کو فروخت کردیا تو اس کے نتیجہ میں مجھے پیسہ مل گیا، یہ نہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹھ گئے تو تمھارے پاس گاہک کس نے بھیجا؟ اگر تم دکان کھول کر بیٹھے ہوتے اور کوئی گاہک نہ آتا تو اس وقت کوئی بکری ہوتی؟ کوئی آمدنی ہوتی؟ یہ کون ہے جو تمھارے پاس گاہک بھیج رہا ہے، اللہ تعالی نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتیں ،ایک دوسرے کی ضرورتیں، ایک دوسرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں، ایک شخص کے دل میں ڈال دیا کہ تم جاکر دکان کھول کر بیٹھو اور دوسرے کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس دکان والے سے خریدو۔

ایک سبق آموز واقعہ

میرے ایک بڑے بھائی تھے جناب محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے آمین، لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی ایک دکان ''ادارۂ اسلامیات'' کے نام سے تھی، اب بھی وہ دکان موجود ہے، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ

تجارت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے عجیب کرشمے دکھلاتا ہے، ایک دن میں صبح بیدار ہوا تو پورے شہر میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بازاروں میں کئی کئی انچ پانی کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج بارش کا دن ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، ایسے حالات میں کون کتاب خریدنے آئے گا اور کتاب بھی کوئی دنیاوی یا کورس اور نصاب کی نہیں بلکہ دینی کتاب، جس کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتیں ہیں تب جا کر یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی دینی کتاب خرید کر پڑھ لیں، ان کتابوں سے نہ تو بھوک مٹتی ہے، نہ پیاس بجھتی ہے، نہ اس سے کوئی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور آج کل کے حساب سے دینی کتاب ایک فالتو ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ فالتو وقت ملے گا تو دینی کتاب پڑھ لیں گے، تو ایسی موسلا دھار بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئے گا، لہذا آج دکان پر نہ جاؤں اور چھٹی کر لیتا ہوں۔

لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت اٹھائی تھی، فرمانے لگے کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں دوسرا خیال یہ آیا کہ ٹھیک ہے کہ کوئی شخص کتاب خریدنے آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لئے رزق کا یہ ذریعہ مقرر فرمایا ہے، اب میرا کام ہے کہ میں جاؤں، جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، گاہک بھیجنا میرا کام نہیں، کسی اور کا کام ہے لہذا مجھے اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنی چاہئے، چاہے بارش ہو رہی ہو یا سیلاب آ رہا ہو، مجھے اپنی دکان کھولنی چاہئے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے چھتری اٹھائی اور پانی سے گزرتا ہوا چلا گیا اور بازار جا کر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور یہ سوچا کہ آج کوئی گاہک آئے گا تو نہیں، چلو بیٹھ کر تلاوت ہی کر لیں، چنانچہ ابھی میں قرآن شریف کھول کر تلاوت کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کیا دیکھتا

ہوں کہ کہ لوگ برساتیاں اور چھتریاں تان کر کتابیں خریدنے آرہے ہیں، میں حیران تھا کہ ان لوگوں کو ایسی کونسی ضرورت پیش آگئی کہ اس طوفانی بارش میں اور بہتے ہوئے سیلاب میں میرے پاس آکر ایسی کتابیں خرید رہے ہیں جن کی کوئی فوری ضرورت نہیں، لیکن لوگ آئے اور جتنی بکری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی اتنی بکری ہوئی، اس وقت دل میں یہ بات آگئی کہ یہ گاہک خود نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی بھیج رہا ہے اور یہ اس لئے بھیج رہا ہے کہ اس نے میرے لئے رزق کا سامان ان گاہک کو بنایا ہے۔

کاموں کی تقسیم اللہ تعالی کی طرف سے ہے

بہر حال یہ درحقیقت اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے جو تمھارے پاس گاہک بھیج رہا ہے، جو گاہک کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم اس دکان سے جا کر سامان خریدو، کیا کسی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا فروخت کریں گے، اتنے لوگ جوتے فروخت کریں گے، اور اتنے لوگ چاول فروخت کریں گے، اتنے لوگ برتن فروخت کریں گے اور اس طرح لوگوں کی ضروریات پوری ہوجائیں گی۔

دنیا میں ایسی کوئی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی نے کسی کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ تم کپڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے دل میں یہ ڈالا کہ تم روٹی فروخت کرو، کسی کے دل میں یہ ڈالا کہ تم گوشت فروخت کرو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو بازار میں نہ ملتی ہو، دوسری طرف خریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر ان سے ضروریات خریدو اور ان کے لئے رزق کا سامان فراہم کرو، یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ تمام انسانوں کو

اس طرح رزق عطا کر رہا ہے۔

زمین سے اگانے والا کون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو دینے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے، زراعت کو دیکھئے زراعت میں آدمی کا کام یہ ہے کہ زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈال دے اور اس میں پانی دیدے، لیکن اس بیج کو کونپل بنانا، وہ بیج جو بالکل بے حقیقت ہے جو گنتی میں بھی نہ آئے، جو بے وزن ہے لیکن اتنی سخت زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے اور وہ کونپل بن جاتا ہے پھر وہ کونپل بھی ایسی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو انگلی سے مسل دے تو وہ ختم ہو جائے لیکن وہی کونپل سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور سرد اور تیز ہواؤں کو سہتی ہے، پھر کونپل سے پودا بنتا ہے، پھر اس پودے سے پھول نکلتے ہیں، پھول سے پھل بنتے ہیں اور اس طرح وہ ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ جاتا ہے، کون ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہٗ ہی یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔

انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

لہٰذا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو چاہے وہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس انسان وہ محدود کام کر دیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور تمہیں عطا کرتے ہیں ل،ہذا جو کچھ بھی تمھارے پاس ہے وہ سب اسی کی عطا ہے:

﴿لله ما فی السمٰوٰت وما فی الارض﴾ (البقرۃ ۲۸۴)

''زمین وآسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے''۔

مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں

اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمھیں عطا کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو تم ہی اس کے مالک ہو، چنانچہ سورۂ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿اولم یروا انا خلقنا لھم مما عملت ایدینا انعاما فھم لھا ملکون﴾ (یاسین ۷۱)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنادیے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ مالک حقیقی تو ہم تھے ہم تمھیں مالک بنادیا، تو حقیقت میں وہ مال جو تمھارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو ہمارا ہے، جب ہمارا حق ہے تو پھر اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اگر اس کے حکم کے مطابق خرچ کروگے تو باقی جتنا مال تمھارے پاس ہے وہ تمہارے لئے حلال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ مال برکت والا ہے اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے تو پھر یہ سارا مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان انگاروں کو دیکھ لوگے جب ان انگاروں سے تمھارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔

صرف ڈھائی فیصد ادا کرو

اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ یہ مال ہماری عطا کی ہوئی چیز ہے، لہذا اس میں سے ڈھائی فیصد تم رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کردو، تو بھی انصاف

کے خلاف نہیں تھا کیونکہ یہ سارا مال اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی ملکیت ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور تمھیں اس مال کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمھاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے ،لہذا چلو اس مال میں سے ساڑھے ستانوے فیصد تمھارا، صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ ہے، جب یہ ڈھائی فیصد اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو باقی ساڑھے ستانوے فیصد تمھارے لئے حلال ہے اور طیب ہے اور برکت والا ہے، اللہ تعالی نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کر دیا کہ اس کو جس طرح چاہو اپنی جائز ضروریات میں خرچ کرو۔

زکوۃ کی تاکید

یہ ڈھائی فیصد زکوۃ ہے یہ وہ زکوۃ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا:

﴿واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ۔۔۔﴾

''نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو''۔

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ میں زکوۃ کا بھی ذکر ہے، اس زکوۃ کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے، جب اس زکوۃ کی اتنی تاکید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ ڈھائی فیصد ٹھیک ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے تو اس پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا ،کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔

زکوۃ حساب کر کے نکالو

بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو زکوۃ سے بالکل بے پرواہ ہیں، العیاذ باللہ، وہ تو زکوۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ ڈھائی فیصد کیوں دیں، بس جو مال آ رہا ہے وہ آئے، دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوۃ کا کچھ نہ کچھ احساس ہے اور وہ زکوۃ نکالتے بھی ہیں لیکن زکوۃ نکالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، جب ڈھائی فیصد زکوۃ فرض کی گئی تو اب اس کا تقاضہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر زکوۃ نکالی جائے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حساب کتاب کرے، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے، لہذا بس ایک اندازہ کر کے زکوۃ نکالتے ہیں، اب اس اندازے میں غلطی بھی واقع ہوسکتی ہے اور زکوۃ نکالنے میں کمی بھی ہوسکتی ہے، اگر زکوۃ زیادہ نکال دی جائے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اگر ایک روپیہ بھی کم ہو جائے یعنی جتنی زکوۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپیہ کم زکوۃ نکالی جائے تو یاد رکھئے! وہ ایک روپیہ جو آپ نے حرام طریقے سے اپنے پاس روک لیا ہے، وہ ایک روپیہ تمھارے سارے مال کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے۔

وہ مال تباہی کا سبب ہے

ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال زکوۃ کی رقم شامل ہو جائے یعنی پوری زکوۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوۃ نکالی اور کچھ باقی رہ گئی تو وہ مال انسان کے لئے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے، اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک

ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکوۃ نکالی جائے، اس کے بغیر زکوۃ کا فریضہ کما حقہ ادا نہیں ہوتا، الحمد للہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو زکوۃ ضرور نکالتی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوۃ نکالے، اس کی وجہ سے زکوۃ کی رقم اکے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیجہ میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔

زکوۃ کے دنیاوی فوائد

ویسے زکوۃ اس نیت سے نکالنی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے، اس کی رضا کا تقاضہ ہے اور ایک عبادت ہے، اس زکوۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے، اصل مقصد تو زکوۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالی اس کو فوائد بھی عطا فرماتے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿یمحق الله الربوا ویربی الصدقات.....﴾ (البقرة ٢٧٦)

''یعنی اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور زکوۃ کو اور صدقات کو بڑھاتے ہیں''۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ:

﴿اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا تلفا﴾. (بخاری کتا ب الزکوة باب قول الله تعالى. فاما من اعطى و اتقى......)

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے

اور اے اللہ! جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور زکوۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اے اللہ! اس کے مال پر ہلاکت ڈال دیجئے، اس لئے فرمایا:

﴿مانقصت صدقة من مال﴾

''کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا''

چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوۃ نکالی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیئے اور اس کے ذریعہ اس زکوۃ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوۃ نکالنے سے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔

مال میں بے برکتی کا انجام

آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے، برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ فوائد حاصل ہو جائے، مثلاً آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے لیکن جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی طبی معائنہ میں وہ سارے پیسے خرچ ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہیں ہوئی، یا مثلاً آپ پیسے کما کر گھر جا رہے تھے کہ راستہ میں ڈاکو مل گیا اور اس نے پستول دکھا کر سارے پیسے چھین لئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو حاصل ہوئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی، یا مثلاً آپ نے پیسہ کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو بدہضمی ہو گئی، اس کا مطلب یہ

ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی، یہ سب بے برکتی کے نشانیاں ہیں، برکت یہ ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالی نے ان تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام بنادئے اور تمھارے بہت سے کام نکل گئے، اس کا نام برکتے ہے، یہ برکت اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرتا ہے، لہذا ہم اپنے مال کی زکوۃ نکالیں اور اس طرح نکالیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے ساتھ نکالیں، صرف اندازہ سے نہ نکالیں۔

زکوۃ کا نصاب

اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اللہ تعالی نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر زکوۃ فرض نہیں، اگر اس نصاب کا مالک ہوگا تو زکوۃ فرض ہوگی، وہ نصاب یہ ہے، ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔

ہر ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں

پھر اس نصاب پر سال گزنا چاہئے، یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن گیا، مثلا فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب

نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب یکم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے ،تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں ،بس یکم رمضان کو دیکھ لو کہ تمھارے پاس کتنی رقم موجود ہے ،اس رقم پر زکوۃ نکالی جائے گی، پس اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔

تاریخ زکوۃ میں جو رقم ہواس پر زکوۃ ہے

مثلا فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس یکم رمضان کو ایک لاکھ روپیہ تھا، اگلے سال یکم رمضان سے دودن پہلے پچاس ہزار روپے اس کے پاس اور آ گئے اور اس کے نتیجے میں یکم رمضان کو اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے ہو گئے ، اب اس ڈیڑھ لاکھ روپے پر زکوۃ فرض ہوگی ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں پچاس ہزار روپے روصرف دودن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوہ نہ ہونی چاہئے یہ درست نہیں ، بلکہ زکوۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوۃ واجب ہے، چاہے یہ رقم پچھلے سال ایک لاکھ روپے تھے، اب ڈیڑھ لاکھ ہیں تو ڈیڑھ لاکھ پر زکوۃ ادا کرو، درمیان سال میں جو رقم خرچ ہوگئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اس خرچ شدہ رقم پر زکوۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ، اللہ تعالی نے حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لئے یہ آسان طریقہ مقرر کیا ہے کہ درمیان سال میں جو کچھ تم نے کھایا پیا اور وہ رقم تمھارے پاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ،اسی طرح درمیان سال میں جو رقم آ گئی ہے اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت

نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال پورا ہوگا، بلکہ زکوۃ نکالنے کی تاریخ میں جو رقم تمھارے پاس ہے، اس پر زکوۃ ادا کرو، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔

اموال زکوۃ کون کون سے ہیں؟

یہ بھی اللہ تعالی کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر زکوۃ فرض نہیں فرمائی، ورنہ مال کی تو بہت سی قسمیں ہیں، جن چیزوں پر زکوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ نقد روپیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں ۲۔ سونا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعمال کا زیور ہے اس پر زکوۃ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوۃ واجب ہے، البتہ صرف سونے اور چاندی کے زیور پر زکوۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہے پلاٹینم ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوۃ واجب نہیں، اسی طرح ہیرے جواہرات پر زکوۃ نہیں، جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعمال کے لئے ہوں۔

اموال زکوۃ میں عقل نہ چلائیں

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہئے کہ زکوۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالی کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے، اب بعض لوگ زکوۃ کے اندر اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر زکوۃ کیوں واجب ہے اور فلاں چیز پر زکوۃ کیوں واجب نہیں ہے؟ یاد رکھئے! کہ یہ زکوۃ ادا کرنا عبادت ہے اور عبادت کے معنی ہی یہ ہیں کہ چاہے وہ ہماری سمجھ

میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کا حکم ماننا ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ سونے چاندی پر زکوۃ واجب ہے تو ہیرے جواہرات پر زکوۃ کیوں واجب نہیں؟ اور پلاٹینم پر کیوں زکوۃ نہیں ؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حالت سفر میں ظہر کی اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر ہے اور چار رکعت کی بجائے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، تو پھر مغرب میں قصر کیوں نہیں، یا مثلا کوئی شخص کہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی مگر اس کی نماز آدھی ہو جاتی ہے اور میں کراچی میں بس کے اندر بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں میری نماز کیوں آدھی نہیں ہوتی، ان سب کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ تو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے عبادت کے احکام ہیں، عبادات میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کام عبادت نہیں رہے گا۔

عبادت کرنا اللہ کا حکم ہے

یا مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ۹ ذی الحجہ ہی کو حج ہوتا ہے، مجھے تو آسانی یہ ہے کہ آج جا کر حج کر آؤں اور ایک دن کے بجائے عرفات میں تین دن قیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی وہاں بیٹھا رہے گا تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی نے عبادت کا جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق نہیں کیا، یا مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ حج کے تین دنوں میں جمرات کی رمی کرنے میں بہت ہجوم ہوتا ہے اس لئے میں چوتھے دن اکٹھی سارے دنوں کی رمی کروں گا، یہ رمی درست نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عبادت انجام دی

جائے گی تو وہ عبادت درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، لہذا اعتراض کرنا کہ سونے اور چاندی پر زکوۃ کیوں واجب ہے اور ہیرے پر کیوں نہیں؟ یہ عبادت کے فلسفے کے خلاف ہے، بہر حال، اللہ تعالی نے سونے چاندی پر زکوۃ رکھی ہے، چاہے وہ استعمال کا ہو اور نقد روپیہ پر زکوۃ رکھی ہے۔

سامان تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دوسری چیز جس پر زکوۃ فرض ہے وہ ہے ''سامان تجارت'' مثلاً کسی کی دکان میں جو سامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے، اس سارے اسٹاک پر زکوۃ واجب ہے، البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی زکوۃ نکالتے وقت یہ حساب لگائے کہ اگر میں پورا اسٹاک اکھٹا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی۔ دیکھئے کہ ''ریٹیل پرائس'' ہوتی ہے اور دوسری ''ہول سیل پرائس'' تیسری صورت یہ ہے کہ پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کرنے کی صورت میں کیا قیمت لگے گی، لہذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکوۃ کا حساب لگایا جار ہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ تیسری قسم کی قیمت لگائی جائے، وہ قیمت نکال کر پھر اس کا ڈھائی فیصد زکوۃ نکالنا ہوگا، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ عام ''ہول سیل قیمت'' سے حساب لگا کر اس پر زکوۃ ادا کر دی جائے۔

مال تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہر وہ مال شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو لہذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی یا

کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اور اس مقصد سے خریدی کے اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو یہ سب مال تجارت میں داخل ہیں، لہذا اگر کوئی پلاٹ، کوئی زمین، کوئی مکان خریدتے وقت شروع ہی میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو اس کی مالیت پر زکوۃ واجب ہے، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ''انویسٹمنٹ'' کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اس پر اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر دوں گا اور فروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوۃ واجب ہے۔

لیکن اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان بنالیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا ہے اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بنا کر وہاں رہائش اختیار کرلیں گے اور یہ احتمال بھی ہے کہ کرائے پر چڑھا دیں گے اور یہ احتمال بھی ہے کہ فروخت کریں گے تو اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوۃ واجب نہیں ہے، لہذا زکوۃ صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریدتے وقت ہی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، یہاں تک کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کو فروخت کر کے پیسے حاصل کریں گے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ اس پلاٹ کو واقعۃً فروخت نہیں کر دیں گے، اور اس کے پیسے آپ کے پاس نہیں آجائیں گے اس وقت تک اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

بہر حال ہر وہ چیز جسے خریدتے وقت ہی اس کو فروخت کرنے کی نیت ہو وہ مال

تجارت ہے اور اس کی مالیت پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ واجب ہے۔

کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟

یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوۃ کا حساب کر رہے ہیں مثلا ایک پلاٹ آپ نے ایک لاکھ روپے میں خریدا تھا اور آج اس پلاٹ کی قیمت دس لاکھ ہوگئی، اب دس لاکھ پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ نکالی جائے گی، ایک لاکھ پر نہیں نکالی جائے گی۔

کمپنیوں کے شیئرز پر زکوۃ کا حکم

اسی طرح کمپنیوں کے ''شیئرز'' بھی سامان تجارت میں داخل ہیں اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز اس مقصد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع (dividend) حاصل کریں گے اور اس پر ہمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملتا رہے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز ''کیپیٹل گین'' سے خریدے ہیں، یعنی نیت یہ ہے کہ جب بازار میں ان کی قمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع کمائیں گے، اگر دوسری صورت ہے یعنی شیئرز خریدتے وقت شروع ہی میں ان کو فروخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر زکوۃ واجب ہوگی، مثلا آپ نے پچاس روپے کے حساب سے شیئرز خریدے اور مقصد یہ تھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو فروخت کر کے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے زکوۃ کا حساب نکالا اس دن شیئرز کی قیمت ساٹھ روپے ہوگئی تو اب ساٹھ روپے

کے حساب سے ان شیئرز کی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے یعنی آپ نے کمپنی کے شیئرز اس نیت سے خریدے کہ کمپنی کی طرف سے اس پر سالانہ منافع ملتا رہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے یہ شیئرز ہیں اس کمپنی کے کتنے اثاثے جامد ہیں، مثلاً بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ اور کتنے اثاثے نقد سامان، تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں، یہ معلومات کمپنی ہی سے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً فرض کریں کہ کسی کمپنی کے ساٹھ فیصد اثاثے نقد سامان تجارت خام مال اور تیار مال کی صورت میں ہیں اور چالیس فیصد اثاثے بلڈنگ مشینری اور کار وغیرہ کی صورت میں ہیں تو اس صورت میں آپ ان شیئرز کی بازاری قیمت لگا کر اس کی ساٹھ فیصد قیمت پر زکوۃ ادا کریں، مثلاً شیئرز کی قیمت ساٹھ روپے تھی اور کمپنی کے ساٹھ فیصد اثاثے قابل زکوۃ تھے اور چالیس اثاثے ناقابل زکوۃ تھے تو اس صورت میں آپ اس شیئرز کی پوری قیمت یعنی ساٹھ روپے کے بجائے ۳۶/= روپے پر زکوۃ ادا کریں، اور اگر کسی کمپنی کے اثاثوں کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئرز کی پوری بازاری قیمت پر زکوۃ ادا کردی جائے۔

شیئرز کے علاوہ اور جتنے فائینانشل انسٹرومنٹس ہیں چاہے وہ بونڈز ہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں یہ سب نقد کے حکم ہیں ان کی اصل قیمت پر زکوۃ واجب ہے۔

کارخانہ کی کن اشیاء پر زکوۃ ہے

اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال اس کی قیمت

پر زکوۃ واجب ہے، اسی طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوۃ واجب ہے، البتہ فیکٹری کی مشینری گاڑی وغیرہ پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لئے روپیہ لگایا ہوا ہے اور اس کاروبار کا کوئی متناسب حصہ اس کی ملکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی ملکیت ہے اس حصے کی بازاری قیمت کے حساب سے زکوۃ واجب ہوگی۔

بہر حال خلاصہ یہ کہ نقد روپیہ جس میں بینک بیلنس اور فائینانشل انسٹرومنٹس بھی داخل ہیں ان پر زکوۃ واجب ہے اور سامان تجارت جس میں تیار مال، خام مال اور جو مال تیاری کے مراحل میں ہیں وہ سب سامان تجارت میں داخل ہیں اور کمپنی کے شیئرز بھی سامان تجارت میں داخل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز جو آدمی نے فروخت کرنے کی غرض سے خریدی ہو وہ بھی سامان تجارت میں داخل ہے، زکوۃ نکالتے وقت ان سب کی مجموعی مالیت نکالیں اور اس پر زکوۃ ادا کریں۔

واجب الوصول قرضوں پر زکوۃ

ان کے علاوہ بہت سے رقمیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں، مثلاً دوسروں کو قرض دے رکھا ہے، یا مثلاً مال ادھار فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیمت ابھی وصول ہونی ہے تو جب آپ زکوۃ کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقموں کو آج ہی آپ اپنی مجموعی مالیت میں شامل کرلیں، اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہو جائیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکوۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ وصول ہو جائیں تو جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی

بھی زکوۃ ادا کرنی ہوگی، مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپیہ قرضہ دے رکھا تھا اور پانچ سال کے بعد وہ قرضہ آپ کو واپس ملا، تو اگرچہ اس ایک لاکھ روپے پر ان پانچ سالوں کے دوران تو زکوۃ کی ادائیگی واجب نہیں تھی لیکن جب وہ ایک لاکھ روپے وصول ہو گئے تو اب گزشتہ پانچ سالوں کی بھی زکوۃ دینی ہوگی، تو چونکہ گزشتہ سالوں کی زکوۃ یک مشت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس قرض کی زکوۃ کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے، لہذا جب زکوۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔

قرضوں کی مہنگائی

پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ نے ذمے دوسرے لوگوں کے کتنے قرضے ہیں، اور پھر مجموعی مالیت میں سے ان قرضوں کو منہا کر دیں، منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ قابل زکوۃ رقم ہے، اس کا پھر ڈھائی فیصد نکال کر زکوۃ کی نیت سے ادا کریں، بہتر یہ ہے کہ جو رقم زکوۃ کی بنے اتنی رقم الگ نکال کر محفوظ کر لیں، پھر وقتاً فوقتاً اس کو مستحقین میں خرچ کرتے رہیں، بہرحال زکوۃ کا حساب لگانے کا یہ طریقہ ہے۔

قرضوں کی دو قسمیں

قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے کہ وہ یہ کہ قرضوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لئے مجبوراً لیتا ہے، دوسری قسم کے قرضے وہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداواری اغراض کے لئے لیتے ہیں، مثلاً فیکٹریاں لگانے یا مشینریاں خریدنے یا مال تجارت امپورٹ کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں، یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے

سے دو فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکٹری لگالی، اب اگر اس دوسری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر ایک پیسے کی بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ الٹے مستحق زکوۃ بن جائیں گے، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے، لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں

اس میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی قسم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد زکوۃ ادا کی جائے گی اور دوسری قسم کے قرضوں میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایسی اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکوۃ ہیں، مثلا اس قرض سے خام مال خرید لیا یا مال تجارت خرید لیا تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے، لیکن اگر اس قرض کو ایسے اثاثے خریدنے میں استعمال کیا جو نا قابل زکوۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔

قرض کی مثال

مثلا ایک شخص نے بینک سے ایک کروڑ روپے لئے اور اس رقم سے اس نے ایک پلانٹ (مشینری) باہر سے امپورٹ کر لیا، چونکہ یہ پلانٹ قابل زکوۃ نہیں ہے، اس لئے کہ یہ مشینری ہے تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے

اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابل زکوۃ ہے، اس لئے یہ قرض سے منہا کیا جائے گا، کیوں کہ دوسری طرف یہ خام مال ادا کی جانے والی زکوۃ کی مجموعی مالیت میں پہلے شامل ہو چکا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نارمل قسم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور جو قرضے پیداواری اغراض کے لئے لئے گئے ہیں اس میں تفصیل ہے کہ اگر اس سے نا قابل زکوۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا اور اگر قابل زکوۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا، یہ زکوۃ نکالنے کے بارے میں احکام تھے۔

زکوۃ مستحق کو ادا کریں

دوسری طرف شریعت نے زکوۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی احکام بتائے ہیں ، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوۃ نکالو، نہ یہ فرمایا کہ زکوۃ پھینکو، بلکہ فرمایا کہ "آتوا الزکوۃ" (زکوۃ ادا کرو) یعنی یہ دیکھو کہ اس جگہ پر زکوۃ جائے جہاں شرعا زکوۃ جانی چاہئے، بعض لوگ زکوۃ نکالتے تو ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں، زکوۃ نکال کر کسی کے حوالے کر دی اور اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ صحیح مصرف پر خرچ کرے گا یا نہیں؟ آج بے شمار ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہونگے جن میں بسا اوقات اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ زکوۃ کی رقم صحیح مصرف پر خرچ ہو رہی ہے یا نہیں، اس لئے فرمایا کہ زکوۃ ادا کرو، یعنی جو مستحق زکوۃ ہے اس کو ادا کرو۔

مستحق کون؟

اس کے لئے شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا کہ زکوۃ صرف انہی اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں، یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحق زکوۃ نہیں رہتا، مستحق زکوۃ وہ ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو۔

مستحق کو مالک بنادیں

اس میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس مستحق کو زکوۃ کا مالک بنا کر دو، یعنی وہ مستحق زکوۃ اپنی ملکیت میں خودمختار ہو کہ جو چاہے کرے، اسی وجہ سے کسی بلڈنگ کی تعمیر پر زکوۃ نہیں لگ سکتی، کسی ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں پر زکوۃ نہیں لگ سکتی، اس لئے کہ اگر زکوۃ کے ذریعہ تعمیرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو زکوۃ کی رقم سب لوگ کھا پی کر ختم کر جاتے، کیوں کہ اداروں کے اندر تنخواہیں بے شمار ہوتی ہیں، تعمیرات پر خرچ لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اس لئے یہ حکم دیا گیا کہ غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر زکوۃ دو، یہ زکوۃ فقراء اور غرباء اور کمزوروں کا حق ہے، لہذا یہ زکوۃ انہی تک پہنچنی چاہئے، جب ان کو مالک بنا کر دے دوگے تو تمھاری زکوۃ ادا ہو جائے گی۔

کن رشتہ داروں کو زکوۃ دی جاسکتی ہے

یہ زکوۃ ادا کرنے کا حکم انسان کے اندر یہ مطلب اور جستجو خود بخود پیدا کرتا ہے کہ

میرے پاس زکوۃ کے اتنے پیسے موجود ہیں، ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے، اس لئے وہ مستحقین کو تلاش کرتا ہے کہ کون کون لوگ مستحقین ہیں اور ان مستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھر ان کو زکوۃ پہنچاتا ہے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے آپ کے محلے میں ملنے جلنے والوں میں عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو مستحق زکوۃ ہوں ان کو زکوۃ ادا کریں، اور ان میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوۃ ادا کریں، اس میں ڈبل ثواب ہے، زکوۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے اور تمام رشتہ داروں کو زکوۃ دے سکتے ہیں، صرف دو رشتے ایسے ہیں جن کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی، ایک ولادت کا رشتہ ہے، لہذا باپ بیٹے کو زکوۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوۃ نہیں دے سکتا، دوسرا نکاح کا رشتہ ہے، لہذا شوہر بیوی کو زکوۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوۃ نہیں دے سکتی، ان کے علاوہ باقی تمام رشتوں میں زکوۃ دی جاسکتی ہے، مثلاً بھائی کو بہن کو چچا کو پھوبھی کو ماموں کو زکوۃ دی جاسکتی ہے، البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوۃ ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں

-

www.e-iqra.com

بیوہ اور یتیم کو زکوۃ دینے کا حکم

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکوۃ ضرور دینی چاہئے، حالانکہ یہاں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، اگر بیوہ مستحق زکوۃ ہے تو اس کی مدد کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر خاتون بیوہ اور مستحق زکوۃ نہیں تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ مصرف زکوۃ نہیں بن سکتی، اسی طرح یتیم کو زکوۃ دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ دیکھ کر زکوۃ دینی چاہئے کہ وہ

مستحق کون ہے، لیکن اگر کوئی یتیم ہے مگر وہ مستحق زکوۃ نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب ہے تو یتیم ہونے کے باوجود اس کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی، ان احکام کو مدنظر رکھتے ہوئے زکوۃ نکالنی چاہئے۔

بینکوں سے زکوۃ کی کٹوتی کا حکم

کچھ عرصہ سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر زکوۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکوۃ وصول کی جاتی ہے، کمپنیاں بھی زکوۃ کاٹ کر حکومت کو ادا کرتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔

جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوۃ کی کٹوتی کا تعلق ہے تو اس کٹوتی سے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ زکوۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ احتیاطا ایسا کرلیں کہ یکم رمضان آنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرلیں کہ میری رقم سے جو زکوۃ کٹے گی وہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے اس کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے دوبارہ زکوۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔

اس میں بعض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ ہماری پوری رقم پر سال پورا نہیں گزرا جب کہ پوری رقم پر زکوۃ کٹ گئی، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے جو بھی رقم آپ کے پاس آئی ہے، اس پر زکوۃ کٹی ہے وہ بھی بالکل صحیح کٹی ہے، کیوں کہ اس بھی زکوۃ واجب ہوگئی تھی۔

اکاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہا کریں؟

البتہ اگر کسی شخص کا سارا اثاثہ بینک میں ہی ہے، خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں تو اس صورت میں بینک تو تاریخ آنے پر زکوۃ کاٹ لیتا ہے، حالانکہ اس رقم سے قرضے منہا نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں زیادہ زکوۃ کٹ جاتی ہے، اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ یا تو آدمی وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنی رقم کو بینک سے نکال لے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دے، بلکہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھے، سیونگ اکاؤنٹ میں بالکل نہ رکھے، اس لئے کہ وہ تو سودی اکاؤنٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں زکوۃ نہیں کٹتی، بہر حال زکوۃ کی تاریخ آنے سے پہلے وہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دے، جب کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوۃ نہیں کٹے گی تو آپ اپنے طور پر حساب کر کے قرض منہا کر کے زکوۃ ادا کریں، دوسرا حل یہ ہے کہ وہ شخص بینک کو لکھ کر دیدے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر زکوۃ نہیں کاٹی جائے گی۔

کمپنی کے شیئرز کی زکوۃ کاٹنا

ایک مسئلہ کمپنی کے شیئرز کا ہے جب کمپنی شیئرز پر سالانہ منافع تقسیم کرتی ہے تو اس وقت وہ کمپنی زکوۃ کاٹ لیتی ہے، لیکن کمپنی ان شیئرز کی جو زکوۃ کاٹتی ہے وہ اس شیئرز کی فیس ویلیو (face value) کی بنیاد پر زکوۃ کاٹتی ہے، حالانکہ شرعاً ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت پر زکوۃ واجب ہے، لہذا فیس ویلیو پر جو زکوۃ کاٹ لی گئی ہے وہ تو ادا ہوگئی، البتہ فیس ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کے درمیان جو فرق ہے اس کا آپ کو اس بنیاد پر حساب کرنا ہوگا، جس کی تفصیل شیئرز کی زکوۃ کے بارے میں بیان کی گئی ہے

, مثلا ایک شیئرز کی فیس ویلیو پچاس روپے تھی اوراس کی مارکیٹ ویلیو ساٹھ روپے ہے تو اب کمپنی والوں نے پچاس روپے کی زکوۃ ادا کری، لہذا دس روپے کی زکوۃ آپ کو الگ سے نکالنی ہوگی، کمپنی کے شیئرز اوراین آئی ٹی یونٹ دونوں کے اندر یہی صورت ہے، لہذا جہاں کہیں فیس ویلیو پر زکوۃ کٹتی ہے، وہاں مارکیٹ کا حساب کر کے دونوں کے درمیاں فرق ہے، اس کی زکوۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

زکوۃ کی تاریخ کیا ہونی چاہئے؟

ایک بات سمجھ لیں کہ زکوۃ کے لئے شرعا کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یا اس تاریخ میں زکوۃ ادا کی جائے، بلکہ ہر آدمی کی زکوۃ کی تاریخ جدا ہوتی ہے، شرعا زکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آدمی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا، مثلا ایک شخص یکم محرم الحرام کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اس کی زکوۃ کی تاریخ یکم محرم الحرام ہوگئی، اب آئندہ ہر سال اس کو یکم محرم الحرام کو اپنی زکوۃ کا حساب کرنا چاہئے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے، اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے لئے کوئی ایسی تاریخ زکوۃ کے حساب کی مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حساب لگانا آسان ہو، پھر آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو زکوۃ کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے، البتہ احتیاطا کچھ زیادہ ادا کریں۔

کیا رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں؟

عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوۃ نکالتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے،

لہذا زکوۃ بھی چونکہ فرض ہے اگر رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو اس کو ثواب بھی ستر گناہ ملے گا، بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس ثواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کرسکتا، لہذا اس کو چاہئے کہ اسی تاریخ پر اپنی زکوۃ کا حساب کرے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں یہ کرسکتا ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی زکوۃ ادا کر رہا ہے، تو اس طرح ادا کرتا رہے اور باقی جو بچے اس کو رمضان المبارک میں ادا کرے، البتہ اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی تاریخ مقرر کرلے، البتہ احتیاطا زیادہ ادا کردے تاکہ اگر تاریخ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو فرق ہوگیا ہو وہ فرق بھی پورا ہوجائے۔

پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرلے تو پھر ہر سال اسی تاریخ کو اپنا حساب لگائے اور یہ دیکھے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اثاثے موجود ہیں، اس تاریخ میں نقد رقم کتنی ہے، اگر سونا موجود ہے تو اسی تاریخ کی سونے کی قیمت لگائے، اگر شیئرز ہیں تو اسی تاریخ کی ان شیئرز کی قیمت لگائے، اگر اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو اسی تاریخ کی اسٹاک کی قیمت لگائے اور پھر ہر سال اسی تاریخ کو حساب کرکے زکوۃ ادا کرنی چاہئے، اس تاریخ سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہئے۔

بہرحال زکوۃ کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کردی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

www.e-iqra.com

www.e-iqra.com

سوالات وجوابات

چاند کی تاریخ مقرر کرنا

سوال: کیا زکوۃ کا حساب کرنے کے لئے انگریزی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں یا چاند ہی کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے؟

جواب: چاند ہی کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے، انگریزی تاریخ مقرر کرنا درست نہیں۔

زیور کی زکوۃ کس کے ذمہ ہے؟

سوال: بہت سی خواتین اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکوۃ آپ ادا کریں، کیوں کہ ہمارے پاس زکوۃ ادا کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہیں، ایسی صورت میں اگر شوہر زکوۃ ادا کر دے تو زکوۃ ادا ہوگی یا نہیں؟

جواب: یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوۃ فرض ہے، وہ اپنی زکوۃ کا خود ذمہ دار ہے، جس طرح ہر شخص اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے، جس طرح شوہر کے ذمے بیوی کی نماز نہیں، اسی طرح شوہر کے ذمے بیوی کی

زکوۃ نہیں، اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے تو زکوۃ ادا کرنا اسی کے ذمے فرض ہے، اور بیوی کا یہ کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بات اس لئے درست نہیں کہ اگر پیسے نہ ہوتے تو زکوۃ واجب ہی کیوں ہوتی، اور اگر بیوی کے پاس صرف زیور ہے اور زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گئی اور اس کے پاس الگ سے پیسے نہیں ہیں ،تو وہ اپنے زیور بیچ کر زکوۃ ادا کرے، لیکن اگر شوہر خوش دلی سے اس کی یہ درخواست قبول کر لے اور اس کی طرف سے زکوۃ ادا کر دے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی۔

البتہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بیوی کے ذمے اسی زیور کی زکوۃ فرض ہے جو اس کی ملکیت میں ہو، لیکن اگر وہ زیور شوہر کی ملکیت میں ہے خواہ بیوی ہی پہنتی ہو تو اس کی زکوۃ بیوی پر فرض نہیں شوہر کو دینی ہوگی۔

مالک بنا کر دینا ضروری ہے

سوال: بہت سے مالدار ایسے ہیں جن کے علاقوں میں سینکڑوں غریب ہوتے ہیں مگر وہ مالدار لوگ صرف اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور پھر وہ انجمن قبرستان کی زمین شادی ہال وغیرہ پر حیلہ تملیک کا ذریعہ اختیار کر کے ان پر خرچ کرتی ہے، اور غریب لوگوں کو وہ زکوۃ نہیں ملتی، کیا یہ طریقہ درست ہے؟

جواب: اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو غریب صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو مالک بنا کر زکوۃ دینا ضروری ہے، کوئی بھی ایسا کام جس میں تملیک نہ پائی جائے مثلاً کوئی عمارت تعمیر کرنا ہو یا قبرستان خرید کر وقف کرنا ہو یا مسجد ہو، ان پر زکوۃ صرف نہیں کی جا سکتی۔

اور یہ جو تملیک کا حیلہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی غریب کو زکوۃ دے دی اور اس سے کہا کہ تم فلاں کام پر خرچ کر دو وہ غریب بھی جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھیل ہو رہا

ہے اور حقیقت میں مجھے اس زکوۃ کی رقم میں سے ایک پیسے کا بھی اختیار نہیں ہے، تو یہ محض ایک حیلہ ہے اور اس کی وجہ سے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

پبلسٹی پر زکوۃ کی رقم لگانا

سوال: آج کل بہت سے ادارے زکوۃ اور دوسرے عطیات جمع کرنے کے لئے بہت سی رقمیں پبلسٹی پر خرچ کر دیتے ہیں، تو کیا زکوۃ کی رقم اس طرح خرچ کرنا جائز ہے؟

جواب: پبلسٹی پر زکوۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں۔

مدارس کے طلبہ کو زکوۃ دینا

سوال: زکوۃ کا بہترین مصرف تو غرباء اور مساکین ہیں لیکن ہمارے ہاں دینی مدارس اور دوسرے اداروں کی وجہ سے زکوۃ کا یہ مصرف تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے، مدارس والے زکوۃ لے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ مسجد پر بھی زکوۃ خرچ کرنے کے لئے تملیک کرا لیتے ہیں، وہ غریب لوگ جو سارا سال زکوۃ کی آس میں اپنے بچوں کی شادیاں اور دیگر امور التواء میں رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟

جواب: جن اداروں میں زکوۃ کو صحیح طور پر ان کے شرعی مصرف میں خرچ کرنے کا انتظام موجود نہیں ہے، ان اداروں کو زکوۃ نہ دینی چاہئے بلکہ غریبوں کو مالک بنا کر زکوۃ دینی چاہئے، البتہ اگر کسی ادارے میں باقاعدہ شرعی طریقے پر زکوۃ خرچ کرنے کا انتظام موجود ہے، وہاں زکوۃ دینی چاہئے، اس لئے کہ جس طرح اور فقراء اور غرباء زکوۃ کے حقدار ہیں اسی طرح وہ طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ غریب بھی ہیں تو وہ طلبہ اور زیادہ حقدار ہیں، کیوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اس لئے جن اداروں میں صحیح انتظام موجود ہو

وہاں بے کھٹک زکوۃ دے سکتے ہیں، البتہ اگر اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں مستحقین زکوۃ موجود ہیں تو ان کو مقدم رکھنا چاہئے، ان کو دینے کے بعد ان اداروں کو دینی چاہئے۔

تاریخ زکوۃ پر نصاب سے کم مال ہونا

سوال: اگر زکوۃ کی تاریخ مقرر ہے، اب سال گزرنے کے بعد جب وہ تاریخ آئی تو اس وقت نصاب سے کم مال تھا تو کیا اس صورت میں زکوۃ ادا کرنی چاہئے یا نہیں؟

جواب: اگر زکوۃ کا حساب کرنے کے لئے آپ نے جو تاریخ مقرر کی ہے، اس تاریخ میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو آپ کے ذمے زکوۃ واجب نہیں ہے۔

ضرورت سے زائد مال کا مطلب

سوال: ضرورت سے زائد مال کی کیا تعریف ہے ؟ کیوں کہ یہ ضروریات ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں؟

جواب: ضرورت سے زائد مال سے مراد یہ ہے کہ گھر میں جو اشیاء کھانے پینے کی ہیں یا استعمال ہونے والے برتن وغیرہ ہیں، اسی طرح پہننے کے کپڑے ہیں اور گھر کا اثاثہ جو گھر میں استعمال ہوتا رہتا ہے، وہ سب ضروریات میں داخل ہیں، اور پھر ہر آدمی کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس مہمان بہت کثرت سے آتے ہیں تو اب اس کو ان کیلئے بہت سارے سامان بستر وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح مہمان

نہیں آتے، بہرحال یوں سمجھ لیں کہ وہ سامان جن کو کبھی استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ایسا سامان ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا۔

ٹیلویژن ضرورت سے زائد ہے

سوال: کیا ٹیلیویژن ضرورت سے زائد ہے؟

جواب: جی ہاں ٹیلیویژن یقیناً ضرورت سے زائد ہے۔

تعمیرات پر زکوۃ کا حکم

سوال: ہسپتالوں کی تعمیر اور مدارس کی تعمیر پر زکوۃ خرچ کرنا چاہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: حقیقت میں تو تعمیرات پر زکوۃ کی رقم خرچ نہیں ہوسکتی، اور آج کل جو حیلہ تملیک کیا جاتا ہے جس میں جانبین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تملیک نہیں ہے، ایسا حیلہ تو کسی طرح بھی معتبر نہیں، لیکن یہ صورت ہوسکتی ہے کہ جن لوگوں کے لئے تعمیر کی جارہی ہے، واقعۃً ان کو وہ رقم مالک بنا کر دے دی جائے اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رقم ہمارے لئے اور ہمارے مصرف میں استعمال ہوگی، لہذا پھر وہ لوگ وہ رقم اپنے طور پر خوش دلی سے اس تعمیر کے لئے دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔

زکوۃ میں کھانا کھلانا

سوال: زکوۃ کے طور پر کھانا پکا کر دینا درست ہے یا نہیں؟

جواب: کھانا پکا کر مستحقین زکوۃ کو مالک بنا کر دینا درست ہے۔

زکوۃ میں کتابیں دینا

سوال: کتابوں کی اشاعت میں زکوۃ کی رقم لگ سکتی ہے یانہیں؟

جواب: کتابوں کی اشاعت میں زکوۃ کی رقم نہیں لگ سکتی البتہ اگر وہ کتابیں زکوۃ کے طور پر مستحقین زکوۃ کو مالک بنا کر دی جائیں گی تو اس سے زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

مال تجارت کی قیمت کا تعین

سوال: اگر کسی مال تجارت کا ریٹ کنفرم نہ ہوا ور وہ مال بازار میں عام فروخت نہ ہوتا ہو، اس کے ریٹ اپنی صوابدید کے مطابق مقرر کر کے اس پر مخصوص نفع رکھ کر فروخت کرنا چاہیں لیکن وہ مال ابھی تک فروخت نہیں ہوا اور نہ اب فروخت ہونے کا امکان ہے تو اس کی قیمت کا تعین کس طرح کریں؟

جواب: مال تجارت کی قیمت کے تعین کرنے کا تعلق تجربہ سے ہے، تجربہ سے اس کا فیصلہ کریں اور انصاف اور احتیاط کے ساتھ اس کی تخمینی قیمت لگائیں کہ جب یہ سامان فروخت ہوگا تو ہمیں اس کے اتنے پیسے ملیں گے، اس طرح قیمت کا تعین کر کے اس کے حساب سے زکوۃ ادا کریں۔

مال تجارت ہی کو زکوۃ میں دینے کا حکم

سوال: ایک مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے مگر وہ فروخت نہیں ہو رہا ہے تو اسی مال کو ہم بطور زکوۃ کے مستحق کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: جی ہاں! زکوۃ میں خود وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جس پر زکوۃ عائد ہے، لہذا سامان تجارت کی زکوۃ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ نقد روپیہ ہی دیا جائے،

بلکہ وہ سامان تجارت جس کی زکوۃ نکالی جارہی ہے، اسی سامان تجارت کا کچھ حصہ بطور زکوۃ کے دے سکتے ہیں، البتہ اگر وہ سامان عام استعمال کا سامان نہیں ہے اور خیال یہ ہے کہ غریب اور فقیر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں انصاف کے ساتھ اندازہ اور تخمینہ سے اس کی قیمت لگا کر پھر اس کی قیمت پر زکوۃ ادا کی جائے۔

امپورٹ کئے ہوئے مال پر زکوۃ کا حکم

سوال: ہم نے ایک مال تجارت باہر ملک سے خریدا ہے اور ابھی ہمارے قبضہ میں نہیں آیا، اس مال کی قیمت کس حساب سے لگائی جائے؟

جواب: اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں آچکا ہے، چاہے وہ ابھی تک آپ کے قبضہ میں نہیں آیا تب تو اس سامان کی قیمت لگائی جائے گی، لیکن اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں نہیں آیا تو اس صورت میں جتنے پیسے آپ نے اس کی خریداری میں لگائے ہیں، صرف ان پیسوں پر زکوۃ واجب ہوگی، مثلا فرض کریں کہ آپ نے ایک سامان امپورٹ کیا اور وہ سامان آپ کی ملکیت میں آگیا ہے، اگر چہ وہ سامان ابھی راستہ میں ہے ابھی تک آپ کے قبضہ میں نہیں آیا، تب تو اس

سامان کی قیمت لگا کر زکوۃ ادا کی جائیگی، لیکن اگر وہ سامان ابھی تک آپ کی ملکیت ہی میں نہیں آیا، اس لئے کہ سودا ہی مکمل نہیں ہوا تو اس صورت میں اس مال کی خریداری میں جتنی رقم لگائی ہے، اس رقم پر زکوۃ واجب ہوگی، اس مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔

شمسی تاریخ سے قمری تاریخ کی طرف تبدیلی کس طرح ہو؟

سوال: شروع ہی سے میں انگریزی تاریخ کے حساب سے زکوۃ کرتا ہوں، اب میں قمری تاریخ کا تعین کس طرح کروں؟

جواب: آئندہ کے لئے تو آپ کسی قمری تاریخ کا تعین کرلیں اور اب تک آپ جو شمسی تاریخ کے حساب سے زکوۃ ادا کرتے چلے آئے ہیں، تو اس میں ہر سال جو تقریباً چند دنوں کا فرق چلا گیا ہے، اس کی تلافی کے لئے آپ شمسی سال کے لئے 2.60 کا حساب کریں اور جو فرق نکلتا ہو اس کی مزید زکوۃ ادا کریں۔

خالص سونے پر زکوۃ ہے

سوال: سونے کے زیور میں کھوٹ اور نگینوں کی قیمت اور وزن شامل ہوتا ہے تو کیا زیور کے پورے وزن پر زکوۃ واجب ہوگی یا کھوٹ کا وزن اور اس کی قیمت الگ کرنی ہوگی؟

جواب: زکوۃ ادا کرتے وقت زیور میں نگینوں کی قیمت اور کھوٹ کو نکالا جائے گا، صرف خالص سونے پر زکوۃ ادا کی جائے گی۔

مجاہدین کو زکوۃ دینا

سوال: کیا جہاد میں کافروں سے برسرپیکار مجاہدین کو زکوۃ دی جاسکتی ہے؟

جواب: جی ہاں! دی جاسکتی ہے جب کہ وہ جہاد میں لگے ہوئے ہوں، اس لئے کہ مجاہدین بھی زکوۃ کا ایک مصرف ہیں۔

تھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ دینا

سوال :بعض تاجر زکوۃ کا حساب لگا کر یکمشت ادانہیں کرتے بلکہ اس زکوۃ کی رقم کو قابل ادا کھاتے میں درج کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوۃ کی مکمل ادئیگی تک وہ رقم کاروبار میں لگی رہتی ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟

جواب: زکوۃ تھوڑی تھوڑی ادا کرنا جائز ہے مگر کوشش یہ کرنی چاہئے کہ زکوۃ جتنی جلد ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔

ایک سے زائد گاڑی پر زکوۃ

سوال: اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہوں تو ان پر زکوۃ ہے یا نہیں؟

جواب: اگر ایک سے زائد گاڑیاں استعمال ہی کے لئے ہیں تو ان پر زکوۃ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاڑی بیچنے کی نیت سے خریدی ہو تو اس گاڑی پر زکوۃ واجب ہے۔

کرایہ کے مکان پر زکوۃ

سوال: کیا کرایہ پر دیے ہوئے مکان پر زکوۃ ہے یا نہیں؟

جواب: کرایہ پر دیے ہوئے مکان کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہے البتہ جو کرایہ ہر ماہ آئے گا وہ کرایہ آپ کی نقد رقم میں شامل ہوگا اور سال کے ختم ہونے پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس پر زکوۃ واجب ہوگی۔

قرض مانگنے والے کو زکوۃ

سوال: اگر کوئی شخص قرض مانگے اور احتمال یہ ہے کہ یہ شخص قرض واپس نہیں کرے گا، تو اس کو قرض بتا کر دل میں زکوۃ کی نیت کرکے رقم دیدیں تو زکوۃ ادا ہوجائے گی یا نہیں؟

جواب: جی ہاں !اس طرح دینے سے بھی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے بشرطیکہ شروع میں رقم دیتے وقت ہی زکوۃ کی نیت ہواور یہ نیت ہو کہ اگر یہ واپس لائے گا تو اس سے واپس نہیں لونگا، تو اس طرح بھی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے۔

اگر بینک صحیح مصرف پر زکوۃ خرچ نہ کرے؟

سوال: جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بینک زکوۃ کاٹ لے تو زکوۃ ادا ہوجاتی ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہی کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہے یا نہیں، لہذا اگر بینک صحیح مصرف پر زکوۃ نہ لگائے تو کیا ہماری زکوۃ ادا ہوجائے گی؟ ہمارے ذمے پر زکوۃ باقی تو نہیں رہ جائے گی؟

جواب: حکومت جو زکوہ وصول کرتی ہے تو حکومت کے وصول کرتے ہی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے، اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے، اگر حکومت صحیح مصرف پر خرچ کرے گی تو اس کی ذمہ داری ادا ہوجائے گی، اور اگر صحیح مصرف پر خرچ نہیں کریگی تو وہ گناہ گار ہوگی لیکن آپ کی زکوہ ادا ہوجائیگی۔

زکوۃ کی تاریخ بدلنے کا حکم

سوال: اگر کوئی شخص اپنی زکوۃ کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے تو وہ بدل سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ ہر شخص کی زکوۃ کی تاریخ وہ ہے جب وہ پہلی بار صاحب نصاب بنا، لیکن جب ایک تاریخ بن گئی تو پھر آئندہ اس کو وہی تاریخ رکھنی چاہیئے اس کو بدلنا درست نہیں۔

اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے لئے ہوئے قرض کا حکم

سوال: اگر کسی شخص نے کمپنی سے اپنے اوپر اویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا ہے تو وہ قرض میں شمار ہوگا یا نہیں؟

جواب: اگر کسی شخص نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا ہے چونکہ وہ اس کی اپنی ہی رقم ہے اس لئے اس قرض کو اپنی مجموعی رقم سے قرض کے طور پر منہا نہیں کیا جائے گا۔

زکوۃ کی ادائیگی کے لئے نیت ضروری ہے

سوال: میں نے اپنے ملازم کو شادی کی مد میں ۲۵ ہزار روپے دیے اور اس سے کہا کہ اس میں سے دس ہزار روپے تمھارے ہیں اور پندرہ ہزار روپے قرض ہیں جو تمھیں واپس کرنا ہے، یہ پندرہ ہزار روپے اگر چہ زکوۃ ہی کے تھے لیکن یہ سوچا کہ اس سے واپس لے کر کسی اور کو یہ زکوۃ میں دے دوں گا کیا میرا یہ فیصلہ درست ہے؟

جواب: جی ہاں اگر آپ نے شروع ہی میں یہ نیت کر لی کہ اس میں سے دس ہزار روپے تو اس زکوۃ کے طور پر دیے ہیں اور باقی قرض ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کے دس ہزار روپے بطور زکوۃ کے ادا ہو جائیں گے، باقی پندرہ ہزار روپے بطور زکوۃ کے ادا نہیں ہوئے، وہ جب وصول ہونے کے بعد دوبارہ زکوۃ کی

نیت سے ادا کریں گے تو اس وقت ادا ہو جائیں گے۔

اپنے ملازم کو زکوۃ دینا

سوال: کیا میں اپنے ملازم کو زکوۃ دے سکتے ہیں اور کیا اس کا صاحب نصاب نہ ہونا ضروری ہے؟

جواب: ملازم ہو یا نہ ہو، جس کو زکوۃ دے رہے ہیں اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، کسی بھی صاحب نصاب کو زکوۃ نہیں دی جاسکتی۔ چاہے وہ ملازم ہی کیوں نہ ہو البتہ ملازم کو دی ہوئی زکوۃ اجرت میں ہرگز نہ لگائیں بلکہ اگر کسی وقت وہ اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرے تو اضافہ بھی اس بنا پر نہ روکیں کہ تمھیں ہم زکوۃ بھی دیتے ہیں یعنی زکوۃ کا کوئی اثر اس کی تنخواہ پر نہ پڑنا چاہئے۔

طلبہ کو وظیفے کے طور پر زکوۃ دینا

سوال: مدارس میں طالب علم کو کھانے کے وظیفے کے طور پر مثلا پانچ سو روپے فی طالب علم زکوۃ کی رقم سے دیے جائیں اور پھر ان طلبہ سے فیس کے طور پر وہ رقم اہل مدارس وصول کریں تو اس طرح کرنے سے زکوۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

جواب: جی ہاں زکوۃ ادا ہوجائے گی، اور اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شیئرز پر ملنے والا سالانہ منافع پر زکوۃ کا حکم

سوال: کیا شیئرز پر ملنے والے سالانہ منافع پر زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟

جواب: جو نقد رقم تاریخ زکوۃ میں آپ کے پاس موجود ہے چاہے وہ رقم کسی بھی ذریعہ سے آئی ہو چاہے شیئرز پر ملنے والا سالانہ نفع کے طور پر آپ کو ملی ہو، یا کسی نے ہدیہ میں آپ کو دی ہو یا دکان کی آمدنی سے حاصل ہوئی ہو ان سب پر زکوۃ واجب ہے۔

شیئرز کی کونسی قیمت معتبر ہوگی

سوال: اگر شیئرز فروخت کرنے کی نیت سے خریدے لیکن بازار میں ان کی قیمت بہت زیادہ گر جانے کی وجہ سے ان کو فروخت نہ کریں تو کیا زکوۃ کی تاریخ آنے پر ان شیئرز کی زکوۃ مارکیٹ ریٹ پر دی جائے گی یا اس کی خریداری کی قیمت پر دی جائے گی؟

جواب: مارکیٹ ریٹ پر زکوۃ دی جائے گی، چاہے مارکیٹ میں نرخ گر گیا ہو یا بڑھ گیا ہو۔

ضرورت سے زائد سامان کے ہوتے ہوئے زکوۃ دینا

سوال: اگر ایک شخص کے گھر میں بظاہر ضرورت کا سامان ٹی وی، وی سی آر وغیرہ موجود ہے مگر وہ ضرورت مند ہے، مثلاً علاج کے لئے اور بچوں کی تعلیم اور شادی وغیرہ کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن شرم کے مارے کھلے عام لوگوں سے نہیں مانگ سکتا، کیا ایسے شخص کو زکوۃ دے سکتے ہیں؟

جواب: اگر اس شخص کو واقعۃً ان کاموں کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ٹی وی، وی سی آر فروخت کرکے پیسے حاصل کرے جب اس قسم کی اشیاء فروخت کردے اور ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس نہ رہے تو پھر ایسے مستحق شخص کو زکوۃ دینے کی گنجائش ہوگی اس سے پہلے نہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں ٹی وی، وی سی آر ہے اسے زکوۃ نہیں دے سکتے لیکن اگر اس کی بیوی یا بالغ اولاد میں کوئی غیر صاحب نصاب مستحق زکوۃ ہے تو اسے زکوۃ دے سکتے ہیں۔

www.e-iqra.com

مریضوں کو زکوۃ کی مد سے دوا دینا

سوال: ایسا مریض جو غریب ہو اور سید نہ ہو، ایک ڈاکٹر اس کو دوائی زکوۃ کی مد سے دے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ایسے مریض کو ڈاکٹر سے زکوۃ کی مد سے دوا دے سکتا ہے۔

بچیوں کے زیور پر زکوۃ کا حکم

سوال: بعض اوقات والدین اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اور ان بچیوں کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بچیاں اس زیور کی مالک ہوتی ہیں اب وہ بچیاں اس زیور کی زکوۃ کس طرح ادا کریں؟

جواب: اگر بچیاں نابالغ ہیں اور والدین نے وہ زیور ان کی ملکیت میں اس طرح دیدیا ہے کہ اب وہ زیور بچیوں سے لیا جائے گا اور نہ دوسروں کو دیا جائے گا، تو اس صورت میں تو اس زیور پر زکوۃ نہیں۔ اس لئے کہ نابالغ پر زکوۃ واجب نہیں، لیکن اگر بچیاں بالغ ہیں اور والدین نے زیور کا مالک ان کو بنا دیا ہے، تو اس صورت میں خود اس بچی پر اس زیور کی زکوۃ فرض ہے، اگر اسکے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو پھر یا تو والدین اس کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوۃ ادا کر دیں، اور اگر یہ ممکن نہ تو زیور فروخت کر کے زکوۃ ادا کرنی ہوگی۔

کیا زیور فروخت کر کے زکوۃ ادا کریں؟

سوال: اگر اس طرح ہر سال زیور فروخت کر کے زکوۃ ادا کرتے رہیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ سارا زیور ختم ہو جائے گا؟

جواب: سارا زیور ختم نہیں ہوگا، بلکہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر ضرور باقی رہے گا، اس لئے جب ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار سے کم ہوگا تو نصاب زکوۃ ختم ہو جائے گا اور زکوۃ ہی واجب نہیں رہے گی۔

تاریخ زکوۃ پر حساب ضرور کرلیں

سوال: ایک شخص کو شادی کے موقع پر جو تحفے ملے اور منہ دکھائیاں ملیں اس کے نتیجے میں وہ صاحب نصاب ہوگیا اگر اگلے سال بھی صاحب نصاب رہے تو اگلے سال اسی تاریخ کو اس پر زکوۃ واجب ہوگی، اب اگر آئندہ سال وہ بھی تاریخ تو آگئی لیکن رمضان کے آنے میں ابھی پانچ ماہ باقی ہیں، تو کیا وہ رمضان آنے پر ایک سال پانچ ماہ کی زکوۃ ادا کرے یا وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے؟

جواب: وہ یہ کرے کہ جس تاریخ کو سال پورا ہوا جائے اس تاریخ کو زکوۃ کا حساب تو لگالے کہ میرے ذمہ اتنی زکوۃ واجب ہوئی، پھر حسب ضرورت ادا کرتا رہے، اگر رمضان تک کوئی مناسب مصرف نہ ملے تو جو زکوۃ بچی ہوئی ہو وہ رمضان میں ادا کردے، لیکن اگر فوری مصرف موجود ہے اور ضرورت مند موجود ہے تو زکوۃ رمضان تک ہرگز مؤخر نہ کرنی چاہئے ہر صورت میں انشاء اللہ ضرورت مند کو فورا دینے میں زیادہ ثواب ہے۔

پگڑی کی رقم پر زکوۃ کا حکم

سوال: پگڑی پر مکان خریدا اور پھر مزید آگے کرایہ پر دے دیا، اس کی زکوۃ کس طرح دی جائے گی؟

جواب: پگڑی پر مکان خریدا نہیں جاتا بلکہ کرایہ پر لیا جاتا ہے، شرعا اس کا حکم یہ ہے کہ پگڑی کوئی قابل زکوۃ چیز نہیں، بلکہ جو مکان کرایہ پر دیا ہوا ہے اور اس کو جو کرایہ آرہا ہے وہ جب آمدنی کی شکل میں جمع ہو، اور پھر وہ سال کے آخر میں تاریخ زکوۃ پر جو باقی رہے اس پر زکوۃ واجب ہوگی، اصل میں اس پر واجب ہے کہ وہ رقم کرایہ دار کو واپس کرے چاہے کرایہ بڑھا دے۔

گڈول پر فروخت کی ہوئی بلڈنگ پر زکوۃ

سوال: اگر ایک شخص کے پاس ایک بلڈنگ ہے جو اس نے گڈول پر فروخت کردی ہے، کیا وہ اس پر زکوۃ دے گا یا نہیں؟

جواب: اگر عمارت یا بلڈنگ گڈول پر فروخت کی ہو یا کسی اور ذریعہ سے فروخت کی ہو جب آپ کے پاس نقد رقم آگئی تو نقد رقم کا جو حکم ہے وہی حکم اس پر جاری ہوگ، یعنی سال کے ختم پر تاریخ زکوۃ آنے پر جو رقم باقی ہوگی ااس پر زکوۃ واجب ہوگی۔

جس قرضے کی واپسی کو امید نہ ہو اس کا حکم

سوال: اگر ایک شخص نے اپنا مال ادھار فروخت کیا ہوا ہے اور پارٹی رقم ادا نہیں کررہی ہے تو اس کی زکوۃ کا کیا حکم ہے، اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ دھار مال لینے والا مسلسل یہ کہتا رہے کہ میں ادا کردوں گا، مگر وہ ادا نہیں کرتا، اور دوسری صورت یہ کہ وہ ادھار لینے والا واپس دینے سے صاف انکار

کر دیتا ہے یا غائب ہی ہو جا تا ہے، یا اس کا انتقال ہو جا تا ہے تو ان صورتوں میں زکوۃ کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر کسی شخص کے ذمے آپ کی رقم تھی مگر وہ اب واپس ادا کرنے سے مکر گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے اور پتہ نیں چل سکا کہ کہاں گیا، اور اب اس رقم کے واپس ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس رقم پر زکوۃ نہیں، لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمھاری رقم ادا کروں گا بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نیک نیتی سے کہہ رہا ہے، اگر چہ اس وقت گنجائش نہیں ہے لیکن گنجائش ہونے پر وہ واقعی دیدے گا تو اس صورت میں اس رقم پر زکوۃ واجب ہے اس کی زکوۃ نکالنی چاہئے، البتہ ااس رقم پر زکوۃ ادا کی جائے گی

فوری واجب نہیں، قرض کی رقم وصول ہونے پر ادا کر سکتا ہے،

مگر جب رقم مل جائے گی، تو پچھلے ان سالوں کی بھی زکوۃ دینی ہوگی، جن میں وہ رقم وصول نہیں ہوئی تھی، اور زکوۃ بھی ادا نہیں کی گئی تھی۔

☆×☆×☆×☆×☆×☆

www.e-iqra.com